



## پی سی بی اور شرجیل خان کامشترکہ اعلامیہ

لاہور، 19 اگست 2019ء:

پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام اور شرجیل خان کے درمیان ملاقات آج ہوئی۔ ملاقات میں شرجیل خان کی کرکٹ میں واپسی کا روڈ میپ ترتیب دیا گیا۔ پی سی بی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر شرجیل خان کو اڑھائی سالہ پابندی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

ملاقات میں اتفاق کیا گیا ہے کہ شرجیل خان رواں سال کے اختتام سے قبل پی سی بی سکیورٹی اینڈ انٹی کرپشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے تیار کیے گئے ری ہییب پروگرام پر عمل کریں گے۔

ری ہییب پروگرام کے مطابق شرجیل خان کو پی سی بی انٹی کرپشن کوڈ کے مطابق لیکچر میں شرکت کرنی ہوگی۔ علاوہ ازیں شرجیل خان کو سوشل سروس کے طور پر یتیم خانہ کا دورہ اور پی سی بی انٹی کرپشن کوڈ پر لیکچر بھی دینا ہوگا۔ ری ہییب پروگرام کے مطابق شرجیل خان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں اور اسپورٹنگ اسٹاف کیساتھ بھی ایک نشست رکھنی لازمی ہوگی۔

### شرجیل خان:

اس موقع پر شرجیل خان کا کہنا ہے کہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ، اپنی ٹیم، شائقین کرکٹ اور اپنے اہل خانہ سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ میرے ایک غیر ذمہ دارانہ عمل کے باعث انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ شرجیل خان نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ مستقبل میں ذمہ داری کا مظاہرہ کروں گا۔

شرجیل خان نے کہا کہ میں تمام کرکٹرز کو باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پی سی بی انٹی کرپشن کوڈ کی پیروی کریں کیونکہ اس کی خلاف ورزی آپ کو صرف وقتی فائدہ دے گی مگر اس کے نتائج پورے کیریئر پر اثر انداز ہوتی ہے۔

شرجیل خان کا کہنا ہے کہ میں پی سی بی کی جانب سے تیار کردہ ری بیب پروگرام پر مکمل عمل کروں گا۔ میں جلد کلب کرکٹ کا آغاز کردوں گا تاہم ڈومیسٹک کرکٹ میں واپسی کے لیے مجھے اپنی فارم اور فٹنس میں بہتری درکار ہوگی۔

**لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ آصف محمود ، ڈائریکٹر پی سی بی سکیورٹی اینڈ انٹی کرپشن**  
:

اس موقع پر ڈائریکٹر پی سی بی سکیورٹی اینڈ انٹی کرپشن لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ آصف محمود کا کہنا ہے کہ آج سرجیل خان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنے کیے پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کیا ہے۔ پی سی بی اپنے کھلاڑیوں کو سزا سنانے پر کبھی فخر محسوس نہیں کرتا تاہم کرپشن پر پی سی بی کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکتا۔

لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ آصف محمود نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ واقع سب کی آگاہی کے لیے کافی ہوگا کہ پی سی بی کرپشن پر کوئی نرمی نہیں برتے گا۔

شرجیل خان پر قائم کردہ انٹی کرپشن ٹریبونل کا مکمل فیصلہ یہاں پڑھ سکتے ہیں:

<https://www.pcb.com.pk/downloads/Decision-of-Sharjeel-Khan-Anti-Corruption-Tribunal.pdf>

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

## **ABOUT THE PCB**

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



[www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk) ●  
@therealpcb ●  
@PakistanCricketBoard ●  
@PakistanCricketOfficial ●  
@therealpcb ●

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4